

ROLL NUMBER					

0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

Version No.				
3	0	1	5	1

0	●	0	0	0
1	1	●	1	●
2	2	2	2	2
●	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	●	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9



**عربی ایچ ایس ایس سی - I**  
حصہ اول (کل نمبر 20)  
وقت: 20 منٹ

Section - A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed.

Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دئے کرنا ہرگز کے حوالے کریں۔ کٹ کر دیا نہ  
تھکنے کا اجازت نہیں ہے۔ سیاہ پینسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Answer Sheet No. \_\_\_\_\_

Candidate Sign. \_\_\_\_\_ ہر سوال کے سامنے دیئے گئے، کر تکلم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Invigilator Sign. \_\_\_\_\_

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

سوال	الف	ب	ج	د	الف	ب	ج	د
1. إن الحسنة الحسنة -	بالكل	يشكرت	تجديده	يتمتع	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. الرد على -	الذي	لهذه	لهذا	في	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. إن بعض المغفلين كان -	جالسا	سائرا	نائما	قائما	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. من وسائل النقل -	الطائرات	الحافلات	الشفن	السيارات	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. أنا أولئك -	على	في	حتى	عن	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. الإسلام -	واجب	امتحان	مفكر	رفن	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. إيران من الدول الإسلامية:	الأسبوتية	الأنديقية	العربية	الغربية	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. أنا -	تراكب	ذاهب	قارم	قارم	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. إنه -	تزيط	تتركب	يتزل	يقطع	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. قد عرفت معنى اسم الكتاب وازدودك -	تخصبا	تربحا	عوقا	شوقا	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

سوال	الف	ب	ج	د	الف	ب	ج	د
11. وَمَنْ يَلِكْ ذَا _____ هُوَ مَرِيضٌ حِينَ مَرَّ بِهِ الْمَاءُ الرَّالِيَّ.	رأس	قلب	فم	أذن	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12. هُوَ _____ لِلدَّاعِي.	غاصب	مفكر	مجنون	برأ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13. كَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَطْعَمُ نَعْلَهُ وَتَوْبَهُ يَأْخُذُ _____.	بسم	بسم	بسم	بسم	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14. _____ لِأَنْصَابٍ فِي كُلِّ وَقْتٍ.	القرص	القرص	القرص	القرص	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
15. أَحِبُّ أَنْ أكونَ _____ خَالِي.	وقل	تخلف	أمام	ضد	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
16. الدُّولُ الْإِسْلَامِيَّةُ تَحْتَلُّ _____ اسْتراتيجيًا هَامًا.	عاصمة	مكانة	مدينة	موقعًا	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17. قَدْ سَمِعْتُ كَثِيرًا _____ مَدِينَةَ لَاهُورِ وَحَتَّى أَقْبَاهَا.	إلى	على	في	عن	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
18. قَلْنَا _____ الْبِنَاءَ إِلَى حَيْثُ يَجِبُ أَنْ يُوضَعَ هَذَا الْحَجَرُ.	سقط	بلغ	بلغ	إنحط	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
19. وَأَحْطَرُّ النَّاسَ _____ التَّكْبِيرَ إِذَا قَدَسَ.	الجهان	الدني	الضويف	الشجاع	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
20. قَدْ أَطْلَقْتُ _____ وَلَمْ تُصَبِّ.	القلم	الحطاب	القول	الكتاب	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

1HA-I 24015-30151

ROLL NUMBER



عربی ایچ ایس ایس سی - ا

کُل نمبر حصہ دوم اور سوم: 80

وقت: 2:40 گھنٹے

الجزء الثاني (كُل ممر ٥٥)

(١٠+١٠)

السؤال الثاني: تَرْجِمُ / تَرْجِمِي التَّالِيَيْنِ إِلَى اللُّغَةِ الْأَنْجَلِيَّةِ أَوِ الْإِسْبَانِيَّةِ:

Q. 2 Translate the following into Urdu or English:

الف- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ بَرَجَلًا سَأَلَ تَرْمِذَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (عَنْ أَحَدِ النَّبِيِّينَ): أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ: تَطْعَمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَةَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

ب- وَكَانَتْ الْخِلَافَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ ذَوِيَّةً وَاحِدَةً مُوَحَّدَةً وَكَانَتْ عَاصِمَتُهَا الْأُولَى هِيَ الْمَدِينَةُ الْمَنُورَةُ ثُمَّ دَخَلَ الْعَصْرُ الْعَبَّاسِيُّ، وَفِيهِ انْتَسَمَتِ الْخِلَافَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ إِلَى الْخِلَافَةِ الْعَبَّاسِيَّةِ فِي بَغْدَادِ وَالْفَاطِمِيَّةِ فِي تُونِسَ ثُمَّ فِي الْقَاهِرَةِ وَإِلَى الْأُمَوِيَّةِ فِي قُرْطُبَةَ الْأَنْدَلُسِ، ثُمَّ قَامَتِ الْخِلَافَةُ الْعُثْمَانِيَّةُ وَاسْتَمَرَّتْ إِلَى سَنَةِ ١٩٢٣ م.

(١٠)

السؤال الثالث: تَرْجِمُ / تَرْجِمِي أَحَدَ الْجُزْأَيْنِ الْآتِيَيْنِ إِلَى اللُّغَةِ الْأَنْجَلِيَّةِ أَوِ الْإِسْبَانِيَّةِ:

Q. 3 Translate one of the following parts into Urdu or English:

الف- وَلَا عَجَبَ فِي ذَٰلِكَ أَمْرٍ مِمَّا يَنْتَظِرُونَ  
ب- مُحَمَّدٌ صَفْوَةٌ الْبَارِي وَرَحْمَتُهُ  
إِذَا الرِّيحُ مَالَتْ مَالًا حَيْثُ تَمِيلُ  
وَبُعَيْتُ اللَّهِ مِنْ خَلْقٍ وَمِنْ نَسَمٍ  
نَمَّا أَكْفَرُ الْإِخْوَانَ جِيءَ تَعُدُّهُمْ  
وَلَكِنَّهُمْ فِي التَّائِبَاتِ قَلِيلٌ  
يَا أَفْصَحَ التَّاطِلِيَّيْنَ الضَّادَ قَاطِبَةً  
حَدِيثُكَ الشُّهُدُ عِنْدَ الدَّائِمِ الْقَهْوِ

(١٠)

السؤال الرابع: أجب / أجبِي عن الأسئلة الآتية في اللغة العربية (خمسة نقاط):

Q. 4 Answer any five of the following question into Arabic:

- (i) هَلِ الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ؟ (ii) عَمَّاذَا يُسَأَلُ بَعْضُ النَّاسِ الْبَاكِسْتَانِيِّينَ؟
- (iii) مَنْ يُحَاسِبُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ (iv) هَلْ جَاءَتْ شَهْرِيَا حَقِيقَةً؟
- (v) لِمَاذَا صَحَّفَ الْأَسَدُ وَلَمْ يَسْتَطِعِ الصَّيْدَ؟ (vi) مِمَّنِ الَّذِينَ يُؤْتُونَ الْجَزْيَةَ؟
- (vii) مَا هُوَ دُسْتُورُ الْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ؟ (viii) أَيُّنَ عَقِدِ الْمَوْسِمِ الْقِيَمَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ الْأَوَّلَى؟

(٥) السؤال الخامس: هات بالمذكر خمسة من الكلمات الآتية (خمسة فقط):

Q. 5 Give masculine for any FIVE of the following words:

- |     |      |      |      |       |       |        |       |
|-----|------|------|------|-------|-------|--------|-------|
| (i) | أخت  | (ii) | إبنة | (iii) | موظفة | (iv)   | أمة   |
| (v) | أذلى | (vi) | باجة | (vii) | مريضة | (viii) | مسيكة |

(١٠) السؤال السادس: ترجم / ترجمي إلى العربية (خمسة فقط):

Q. 6 Translate any FIVE of the following sentences into Arabic:

- |        |  |  |        |
|--------|--|--|--------|
| (i)    | I saw the Anarkali market.   | میں نے انارکلی بازار دیکھا۔                | (i)    |
| (ii)   | The soul is a trust.   | روح ایک امانت ہے۔                          | (ii)   |
| (iii)  | The Holy Prophet (ﷺ) wrote a letter to Mā'az bin Jabal (رضی اللہ عنہما). | رسول اللہ ﷺ (ﷺ) نے معاذ بن جبل کو خط لکھا۔ | (iii)  |
| (iv)   | He fell down from the roof.  | وہ چھت پر سے گر پڑا۔                       | (iv)   |
| (v)    | Allah (ﷻ) likes Justice.   | اللہ (ﷻ) عدل کو پسند کرتا ہے۔              | (v)    |
| (vi)   | They walk to the run way.  | وہ رن وے کی طرف چلتے ہیں۔                  | (vi)   |
| (vii)  | Pakistan came into being in 1947.  | پاکستان 1947ء میں بنا۔                     | (vii)  |
| (viii) | This is an imported cloth.   | یہ درآمد شدہ کپڑا ہے۔                      | (viii) |

### الجزء الثالث (کل ممبر ۲۵)

(۷) السؤال السابع: صرّف / صرّفي "يطلب" ليقابل المضارع المتلوه:

Q. 7 Write down the whole Gardaan of "يطلب" muzara tense.

(۱۰) السؤال الثامن: أكتب / اكتبی عشر جمل حول أحد الموضوعين في اللغة العربية.

Q. 8 Write down TEN sentences about any ONE of the following topics in Arabic.

- |     |              |      |                            |
|-----|--------------|------|----------------------------|
| (i) | وطني باكستان | (ii) | خلق النبي ﷺ (خاتم النبيين) |
|-----|--------------|------|----------------------------|

(۸) السؤال التاسع: رتب / رتبی الجمل الآتية لتكون العبارة مفيدة:

Q. 9 Re-arrange the following sentences to make a meaningful paragraph:

- |       |  |
|-------|--|
| (i)   | الآن يذهبون بك إلى بيت لا فراش فيه ولا عطاء ولا وطاء ولا حنجر ولا ماء۔ |
| (ii)  | مررت بجنازة فوجدتها أمام بيتي واليها وجه الجنازة امرأتك وتقول:         |
| (iii) | إلحق يا أبت إلى بيتنا والله يذممون۔                                    |
| (iv)  | فقال الولد لأبيه:  |